

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

Diploma in Computer Science and Engineering

III Semester Exams : Non - CBCS (Backlog) - December - 2018

CM - 302 : Basic Electrical and Electronics Engineering

Total Time : 3 hrs

Total Marks : 70

نوت: سال 2015 اور اس سے پہلے کے بیاچیں کے طالب علموں کو (Part A) میں ہر سوال کے 2 نمبر مختص ہیں۔ ($10 \times 2 = 20$)

Note: For 2015 and previous batches, (Part A- I to X questions) shall carry 2 marks each.

ہدایات:

یہ پرچم سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا / اختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ ($10 \times 1 = 10$ Marks)
2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 10 سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 06 نمبرات مختص ہیں۔ ($5 \times 6 = 30$ Marks)
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ ($3 \times 10 = 30$ Marks)

حصہ - اول

سوال 1

- (i) اگر درجہ حرارت بڑھایا جائے تو semiconductor کے resistance پر کیا اثر ہو گا؟
 (a) بڑھے گا (b) کوئی تبدیل نہیں آئے گی (c) کھٹے گا (d) ان میں سے کوئی نہیں
 (ii) کنکیش (star connection) میں لائن و ولٹیج اس کے فیز و ولٹیج کے مساوی ہوتا ہے۔ صحیح یا غلط؟
 (iii) ایسا پاسکٹ جہاں تین یا زیادہ branches ملتے ہوں کہا جاتا ہے۔
 (iv) اگر دو coils ہوں اور ایک کائل کا تمام فلکس (flux) دوسرے کائل کو لک کرتا ہے، تو coupling coefficient کیا ہو گا؟

10 (d)

1 (c)

100 (b)

0 (a)

- (v) Resonance کی حالت میں inductor اور capacitor کا combination کس سرکٹ کی طرح کام کرتا ہے؟

Open (b) Short (a)

- (vi) 3 میں neutral کا رنگ ہوتا ہے۔ 3-core flexible cable

- (vii) ان میں سے عام طور پر استعمال کیا جانے والا pentavalent material کون سا ہے؟

Neon (d)

Arenic (c)

Boron (b)

Gallium (a)


- (viii) سلیکان ڈائیوڈ (Silicon diode) کی قدر knee voltage کے

ٹرانسیستر (transistor) کو amplifier کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ صحیح یا غلط۔	(ix)
ایکٹرائیک devices کوکس سے protect کرنے کے لئے spike buster کا استعمال کیا جاتا ہے؟	(x)
Low resistance (b)	Low Voltage (a)
High resistance (d)	High voltage (c)

حصہ - دوم

تین resistors جن کی values ہیں، ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے equivalent	2
کی قدر معلوم کیجیے اگر resistance	
series میں جڑے ہوئے ہوں۔ (a) یا parallel (b) میں جڑے ہوئے ہوں۔	
کرچوف (Kirchoff) کا کرنٹ لاء اور وونچ لاء کی تشریح کیجیے۔	3
آلٹرینینگ کرنٹ (AC) کے across خالص کپا سٹنس (pure capacitance) کا کیس سمجھائیے۔	4
چوک (choke) کی تعریف کیجیے۔ AF چوک پرنوٹ لکھئے۔	5
Intrinsic اور extrinsic semiconductors کے درمیان فرق بتائیے۔	6
سمجھائیے کہ p-type material کس طرح form ہوتا ہے۔	7
سینی کنڈکٹر جمنیم (germanium) کا ایٹمی structgure سمجھائیے۔	8
آن لائن UPS کا خاکہ بناؤ کہ اس کے ہر block کی تشریح کیجیے۔	9

حصہ - سوم

RLC سیریز سرکٹ کو تفصیل سے سمجھائیے۔	10
ایکٹیو اور پاسیو سرکٹس (active and passive circuits) پرنوٹ لکھئے۔	11
دئے گئے اشارہ سرکٹ کا ڈیلٹا equivalent سرکٹ اخذ کیجیے۔	(a)
دئے گئے اشارہ سرکٹ کا ڈیلٹا equivalent سرکٹ اخذ کیجیے۔	(b)
	
Resistors کا کل کوڈ ٹبل لکھئے۔ ایک مثال کے ذریعہ سمجھائیے کہ کل کوڈ سے کس طرح resistor کی value معلوم کی جاتی ہے۔	12
ٹرانسیستر (transistor) کی تعریف کیجیے اور اس کے constructional features اور principles of operation پرروشنی ڈالئے۔	13
مع خاکہ Stabilizer کی کارکردگی سمجھائیے۔	14

☆☆☆